



سوال

(515) آپ کے لئے سجدہ سہولازم نہیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں اور ہمیشہ شک میں مبتلا رہتا ہوں کہ معلوم نہیں کتنی نماز پڑھ لی ہے۔ کتنی باقی رہ گئی ہے۔ اس لئے میں سجدہ سہو بھی کثرت کے ساتھ کرتا رہتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کیجئے محض وسوسہ کی وجہ سے سجدہ سہولازم نہیں ہے اگر کسی رکعت یا رکن کے ترک میں شک ہو تو اسے ازراہ احتیاط دوبارہ ادا کر لیجئے اور سجدہ سہو کر لیجئے۔ (شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ)
حدیثاً عنہما والیٰ واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1

صفحہ نمبر 427

محدث فتویٰ